



سوال

(771) داڑھی کو رنگنے اور نہ رنگنے کے بارے صحیح حدیث تحریر فرمادیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

داڑھی کو رنگنا سنت ہے اور اگر آدمی نہ رنگے بال سفید ہی رہنے دے تو کیا یہ طریقہ بھی سنت ہے داڑھی کو رنگنے اور نہ رنگنے کے بارے صحیح حدیث تحریر فرمادیں۔ (ظفر اقبال، ضلع نارووال)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو سیاہ رنگ لگانا تو منع ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی مرفوع حدیث سے ثابت ہے۔ [2] جابر سے روایت ہے کہ فحیمہ والے دن ابو بکر کے والد ابو قحافة کو (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں) پیش کیا گیا اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں ثقانہ (بوٹی) کی طرح تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدل دو اور ان کو سیاہ کرنے سے بچو۔ [3] باقی سیاہ رنگ کے علاوہ کوئی رنگ داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو لگانا افضل و ثواب ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ لگایا ہے 3 اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ نہیں لگایا۔ [4] انس سے نبی کریم کے خضاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ کے بال ہی بہت کم سفید تھے۔ (آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں ۲۰ سے زیادہ سفید بال نہیں تھے۔) [5] عثمان بن عبد اللہ بن مویب فرماتے ہیں: ((وَدَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْضُومًا)) [5] میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم کے چند بال نکال کر دکھائے جن پر خضاب لگا ہوا تھا اور دوسری حدیث میں کہ ام سلمہ نے انہیں نبی کریم کا بال دکھایا جو سرخ تھا۔ [6] یہ تینوں احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔

1 صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ما یذکر فی الشیب

2 صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، استحباب خضاب الشیب بصفرة وحمرة و تحريمه بالسواد۔

3 ابوداؤد، کتاب التزیل، باب فی خضاب الصفرة۔

4 بخاری، کتاب اللباس، باب ما یذکر فی الشیب، کتاب المناقب، باب صفۃ النبی



5. بخاری، کتاب اللباس، باب ما ینکر فی الثیب، کتاب اللباس، باب ما ینکر فی الثیب۔

قرآن وحدیث کی روشنی میں احکام ومسائل

جلد 02 ص 757

محدث فتویٰ